

سوال

میں روزے وصال کرنے کے بارہ میں سوال کرنا چاہتا ہوں ، میں نے سنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزوں میں وصال کیا کرتے تھے ، میری گزارش ہے کہ آپ روزے وصال کرنے کے بارہ میں بتائیں کہ یہ کیا ہوتا ہے ؟

پسندیدہ جواب

الحمد لله.

روزوں میں وصال یہ ہے کہ : دو یا زیادہ دن بغیر افطاری کیے روزہ رکھا جائے ، یعنی روزہ رات میں دوسرے روزے سے بغیر کچھ کھائے پیے ملایا جائے ۔

نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزوں میں وصال کیا کرتے تھے ، اور اللہ تعالیٰ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی طاقت عطا کرتے تھے ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر شفقت ورحمت کرتے ہوئے انہیں اس سے منع فرمادیا کہ وہ روزوں میں وصال نہ کریں ۔

ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

(وصال نہ کیا کرو ، صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو وصال کرتے ہیں ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے تم میں سے میری طرح کون ہے ؟ مجھے تو رات میرا رب کھلا پلا دیتا ہے ، صحابہ کرام وصال کرنے سے نہ رکے ۔

راوی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ دو دن یا دو راتیں وصال کیا پھر چاندنظر آگیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے : اگر چاند نظر نہ آتا تو میں اور زیادہ وصال کرتا یعنی ان کے لیے بطور سزا) ۔

صحیح بخاری حدیث نمبر (7299) صحیح مسلم حدیث نمبر (1103)

ابن قدامہ رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب المغنی میں کہتے ہیں :

اکثر اہل علم کے قول میں وصال کرنا مکروہ ہے ۔ اھ

دیکھیں المغنی لابن قدامہ المقدسی (4 / 436) -

امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب المجموع میں رقمطراز ہیں :

وصال کا حکم یہ ہے کہ ہمارے ہاں بغیر کسی اختلاف کے وصال مکروہ ہے ، اور کیا یہ کراہت تحریمی ہے یا تنزیہی ؟

اس میں دو قول ہیں ہمارے اصحاب کے ہاں زیادہ صحیح یہ ہے جس پر امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی تصریح بیان کی ہے کہ یہ کراہت تحریمی ہے ۔ اھ -

دیکھیں المجموع (6 / 357) -

اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ شرح الممتع میں کہتے ہیں :

وصال کے حکم میں یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ حرام ہے ۔ اھ -

دیکھیں الشرح الممتع (6 / 443) -

واللہ اعلم .